



FAMIS

بچوں کے لیے ورجینیا کا ہیلتھ انشورنس پروگرام

اُس قیمت پر آپ کے بچے کا تحفظ جس کے آپ متحمل ہوسکتے ہیں!

FAMIS اور بچوں کے لیے Medicaid کیا ہے؟

FAMIS بچوں کے لیے ورجینیا کا ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے جن بچوں کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے۔ یہ اُن بچوں کے لیے معیاری صحت کی خدمات تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ بچوں کے لیے Medicaid بہت اچھے فوائد بھی فراہم کرتا ہے اور کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کا احاطہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر بچوں کو ہیلتھ انشورنس کے ذریعے کور کیا جاتا ہے۔ جب آپ کوریج کے لیے درخواست دیتے ہیں، تو آپ کے بچوں کا **FAMIS** اور بچوں کے لیے Medicaid دونوں کے بارے میں غور کیا جاتا ہے۔

کس چیز کا احاطہ کیا جاتا ہے؟

- ڈاکٹر کا دورہ
- ہسپتال اور ایمرجنسی کی دیکھ بھال
- بچوں اور شیر خوار بچوں کی اچھی طرح چیک اپ
- شائس
- نسخہ جات
- ٹیسٹ اور ایکس رے
- بینائی اور دانتوں کی دیکھ بھال
- دماغی صحت کی نگہداشت
- اور بہت کچھ...

آپ کے گھرانے کے لیے **FAMIS** یا بچوں کے لیے **Medicaid** کے ساتھ کوئی ماہانہ یا سالانہ لاگت نہیں ہے۔ صرف **FAMIS** میں اندراج شدہ بچوں کے لیے، بعض طبی علاج کے لیے چھوٹی موٹی معاون ادائیگیاں (\$2 یا \$5) ہیں۔

کون اہل ہیں؟

بچے **FAMIS** یا بچوں کے لیے **Medicaid** کے لیے ایسی صورت میں اہل ہو سکتے ہیں اگر وہ:

- ورجینیا میں رہتے ہیں اور 19 سال سے کم عمر کے ہیں
- کیا امریکی شہری ہیں (کچھ غیر شہری بھی اہل ہیں) والدین کی شہریت پر غور نہیں کیا جاتا ہے
- آمدنی کے مخصوص معیار پر پورا اترتے ہوں (مندرجہ ذیل چارٹ دیکھیں)

FAMIS آمدنی کی (مجموعی*) حد

گھرانے کا سائز	ماہوار	سالانہ
1	\$2,491	\$29,889
2	\$3,369	\$40,426
3	\$4,247	\$50,963
4	\$5,125	\$61,500
5	\$6,004	\$72,037

20 جنوری 2023 سے موثر آمدنی کی حدیں سالانہ ایڈجسٹ کی جاتی ہیں۔ اضافی ہدایات کے لیے کال کریں۔

اندراج شدہ بچوں کے ساتھ مہاجر خاندانوں پر عوامی چارج کا لیبل نہیں لگایا جائے گا۔ **FAMIS** یا بچوں کے لیے **Medicaid** حاصل کرنے سے خاندان کی امریکی شہریت حاصل کرنے کی اہلیت متاثر نہیں ہوگی۔

میں کیسے اپلائی کروں؟

FAMIS اور بچوں کے لیے **Medicaid** کے لیے درخواست دینا آسان ہے۔

بس صرف 833-5CALLVA پر ٹول فری کال کریں۔ ترجمان موجود ہیں۔ ہمارے نمائندے آپ کو کسی ایسے شخص سے ملائیں گے جو آپ کی زبان بولتا ہو۔

یا پھر commonhelp.virginia.gov آن لائن درخواست دینے کے لیے لاگ ان ہو جائیں۔

آپ اپنے مقامی شعبہ برائے سماجی خدمات پر بھی درخواست دے سکتے ہیں۔

ان دستاویزات کی فہرست کے لیے جن کی آپ کو درخواست دیتے وقت ضرورت ہوگی، ملاحظہ کریں www.coverva.org اور اپلائی پیج پر کلک کریں۔ آپ سے بچوں کی امیگریشن کی حیثیت کا ثبوت مانگا جائے گا اگر وہ امریکی شہری نہیں ہیں۔ اگر آپ کا بچہ امریکی شہری ہے، آپ سے درخواست پر اپنے بچے کا سوشل سیکیورٹی نمبر فراہم کرنے کو کہا جائے گا۔



Covering Children With
Affordable Health Insurance

DMAS 0223 Urdu

833-5CALLVA • TTY: 1-888-221-1590 • www.coverva.org